

سابق امریکی فوجیوں اور معذوری کے حامل افراد کے لیے موبائل فوڈ وینڈر کے شہر بھر کے لیے سپروائزری لائسنس کی درخواست دینے کا موقع

نیویارک سٹی محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت سابق امریکی فوجیوں اور معذوری کے حامل افراد کے لیے موبائل فوڈ وینڈر کے شہر بھر کے لیے سپروائزری لائسنس کی درخواستیں جاری کر رہا ہے۔ شہر بھر کے لیے سپروائزری لائسنس آپ کو ایک مکمل مدت (سال بھر) کے لیے شہر بھر میں موبائل فوڈ وینڈنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی اجازت دیتا ہے۔

اگر آپ کے پاس نیویارک سٹی محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت کی جانب سے جاری کردہ موجودہ موبائل فوڈ وینڈر لائسنس (آئی ڈی بیج) ہے جس کی میعاد باقی ہے اور آپ سابق امریکی فوجی ہیں یا معذوری کے حامل شخص ہیں، تو آپ اس انتظار کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس انتظار کی فہرست میں پوزیشنز کی تعداد محدود ہوگی، جو اس ترتیب سے ہوں گی:

- گروپ 1: معذوری کے حامل سابق امریکی فوجی
- گروپ 2: معذوری کے حامل افراد (جو سابق امریکی فوجی نہ ہوں)
- گروپ 3: ایسے سابق امریکی فوجی جو معذوری کے حامل نہیں ہیں

آپ سپروائزری لائسنس کی صرف ایک انتظار کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سپروائزری لائسنس کی کسی اور انتظار کی فہرست میں ہیں اور اب اس انتظار کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سابق امریکی فوجی ہیں یا معذوری کے حامل شخص ہیں، تو آپ کو اس دوسری سپروائزری لائسنس کی انتظار کی فہرست سے ہٹا دیا جائے گا جس میں آپ فی الحال شامل ہیں۔ جب آپ سپروائزری لائسنس کے لیے درخواست دیں گے تو آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ آپ سابق امریکی فوجی ہیں یا معذوری کے حامل شخص ہیں۔

شہر بھر کے لیے سپروائزری لائسنس کی انتظار کی فہرست کا ایپلیکیشن فارم اور درخواست پُر کرنے کی ہدایات nyc.gov/health/mobilefood پر دستیاب ہیں۔ آپ درخواست بذریعہ ڈاک حاصل کرنے کے لیے 311 پر کال کر کے "mobile food" (موبائل فوڈ) کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔

انتظار کی فہرست کی درخواستیں لازمی طور پر ای میل یا ڈاک کے ذریعے بھیجی جانی چاہئیں اور ان پر 28 اپریل 2026 تک کی پوسٹ مارک مہر لگی ہونی چاہیے۔

مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/health/mobilefood ملاحظہ کریں۔